



سوال

(616) سجدہ شکر

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

براہ مہربانی یہ بتائیں سجدہ شکر کیسے ادا کیا جائے؟

(۱) کیا سجدہ شکر ادا کرتے وقت تکبیر کہنا چاہیے؟

(۲) کیا سجدہ شکر کے لئے وضو کرنا کرنا شرط ہے؟

(۳) کیا سجدہ شکر کی کوئی مخصوص دعا ہے؟

امید کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب سے نوازیں گے۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

"شکر" کے معنی ہیں احسان ماننا، قدر پہنچانا اور نعمت کو ظاہر کرنا اس کے مقابلہ میں "کفر" کا لفظ استعمال ہوتا ہے کفر کے معنی ہیں نعمت کو بھولنا اور اس کو چھپانا، شکر پانچ امور پر مبنی ہے۔

اول: شکر کی مشکور کے لئے فروتنی۔

دوسرے: اس سے محبت کرنا۔

تیسرے: اس کی نعمت کا معترف ہونا۔

چوتھے: اس نعمت کی بنا پر اس کی ثنا (تعریف) کرنا

پانچویں: اس نعمت کو ایسی جگہ استعمال میں نہ لانا، جہاں وہ ناپسند کرے۔



یہ پانچ باتیں شکر کی اساس (یعنی جزء اور اصل) ہیں اور ان ہی پر اس کی بنیاد ہے۔ (لغات القرآن جلد سوم ص 295)

جب انسان کو کوئی نعمت حاصل ہو یا غم اور مصیبت سر سے ٹل جائے۔

(کہ یہ بھی ایک نعمت ہے) تو اس کو سجدہ شکر کرنا چاہئے۔ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مسرت کے موقعوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر کیا ہے۔ جیسا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے لئے مکہ سے روانہ ہوئے، پس جب ہم 'غزوہ' (ایک جگہ کا نام ہے) کے قریب آگئے تو آپ (اونٹ سے) اترے پھر دست مبارک اٹھا کر کچھ دیر دعا فرماتے رہے، اس کے بعد سجدہ میں چلے گئے اور دیر تک سجدہ ہی میں رہے پھر (سجدہ سے) اٹھے اور دوبارہ دعا فرمائی، پھر سجدہ میں چلے گئے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار کیا اور فرمایا! میں نے اپنے رب سے اپنی امت (کی مغفرت) کے لئے سفارش کی تھی تو میرے رب نے مجھے تہائی امت (کی مغفرت کی بشارت) دیدی تو میں نے اس پر شکر کا سجدہ کیا پھر میں نے (سجدہ سے) سر اٹھایا اور امت کے لئے درخواست پیش کی تو اور تہائی امت دیدی (دوسری بار) پھر میں نے (سجدہ سے) اٹھایا اور امت کے لئے درخواست پیش کی تو اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے باقی تہائی امت بھی دیدی، اس پر بھی میں نے سجدہ شکر کیا۔ (مشکوٰۃ باب السجود الشکر ص 131)

اور روایتوں میں بھی آتا ہے کہ غزوہ بدر میں قتل الجہل اور فتح اسلام کی خوشی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر کیا تھا، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے قتل کی خبر پا کر سجدہ شکر کیا تھا۔

لہذا خوشی کے موقع پر نماز کے سجدہ کی طرح سجدہ کیا جائے گا

اس سجدہ میں تکبیر کہنا ضروری نہیں ہے

اسی طرح طہارت بھی شرط نہیں ہے،

دیگر سجدوں کی طرح اس میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں یا پھر شکرانے کی مناسبت سے کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں۔

بدا عندی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ علمائے حدیث

کتاب الصلاة جلد 1